Rampur State Gazette

گزٹ ریاست رامپور

بحکم بندگان اعلیحضرت حضور پرنور دام اقبالہم و ملکہم

جلد ۳۹	مطبوعہ روز دوشنبہ تاریخ ۲۹ شعبان المعظم ۱۳۴۴ھ مطابق ۱۵ مارچ ۱۹۲۶ء	نمبر ۱۱

فہرست مضامین

حکم اجلاس ہمایون بندگان حضور پرنور دام اقبالہم و ملکہم واقع ۷ مارچ ۱۹۲۶ء

عرضداشت صاحب پرائیوٹ سکرٹری بہادر دربارہ منظوری رخصت یکماہہ منشی ہردیو پرشاد صاحب افسر کارخانہ جات از ۱۲ مارچ ۱۹۲۶ء بغرض روانگی ضلع سیتاپور بنا بر تحصیل وصولی زر دیہات۔

زمیندارہ بکارگزاری منشی مرلی منوہر یاد خورد۔ بذمہ داری ہمشی حسب سفارش کنٹرولر صاحب ہاؤس ہولڈ۔

حکم

۱۴ مارچ ۱۹۲۶ء سے رخصت یکماہ بذمہ داری منشی مرلی منوہر بموجب رپورٹ منظور ہی - احکام ضابطہ جاری ہون -

حسب الحکم دستخط صاحب چیف سکریٹری بہادر

احکام اجلاس صاحب ریونیو سکریٹری بہادر

اضافہ

۴ مارچ ۱۹۲۶ء

مثبتہ رپورٹ تحصیلدار صاحب بلاسپور مصدقہ حاکم صاحب صدر - دربارہ اضافہ تنخواہ و اصلباقیونیس تحصیل بلاسپور مشاہرہ دار بیس روپیہ بوجہ قلت تنخواہ وحسن انجام دہی خدمات متعلقہ

حکم

حسب سفارش تحصیلدار صاحب بلاسپور نظیر حسین واصلباقیونیس تحصیل بلاسپور کی تنخواہ موجودہ بیس روپیہ ماہوار مین دو روپیہ ماہوار اضافہ کیا جانا منظور ہی - احکام جاری ہون

دستخط صاحب ریونیو سکریٹری بہادر

اضافہ

۴ مارچ ۱۹۲۶ء

مثبتہ رپورٹ تحصیلدار صاحب بلاسپور دربارہ اضافہ تنخواہ سید معصوم شاہ رجسٹرار قانونگوے تحصیل بلاسپور مشاہرہ دار بائیس روپیہ بوجہ قلت تنخواہ وحسن انجام خدمات

حکم

حسب سفارش تحصیلدار صاحب بلاسپور سید معصوم شاہ رجسٹرار قانونگوے تحصیل بلاسپور کی تنخواہ موجودہ بائیس روپیہ ماہوار مین ایک روپیہ ماہوار اضافہ کیا جانا منظور ہی - احکام جاری ہون -

دستخط صاحب ریونیو سکریٹری بہادر

اضافہ

۴ مارچ ۱۹۲۶ء

مثبتہ رپورٹ تحصیلدار صاحب بلاسپور مصدقہ حاکم صاحب صدر

دربارہ اضافہ تنخواہ جگن لال محرر سررشتہ تحصیل بلاسپور بوجہ حسن انجام دہی کار متعلقہ -

حکم

حسب لحاظ سفارش تحصیلدار صاحب بلاسپور و حاکم صاحب صدر جگن لال محرر سررشتہ بلاسپور کی تنخواہ موجودہ سترہ روپیہ ماہوار مین ایک روپیہ ماہوار اضافہ منظور ہی - احکام جاری ہون -

دستخط صاحب ریونیو سکریٹری بہادر

اضافہ

۴ مارچ ۱۹۲۶ء

مثبتہ رپورٹ رسالدار صدر مصدقہ حاکم صاحب صدر دربارہ منظوری ایک روپیہ الاؤنس مقررہ سے کم ہو کر تنخواہ عزیز الرحمن خان نائب رسالدار مین ایزاد ہونا بموجب اسکیم تقرر ملازمان رسالۂ صدر منظور شدہ یکم اپریل ۱۹۲۶ء

حکم

ملاحظہ ہوا جب اسکیم منظور شدہ نائب رسالدار صدر کے الاؤنس مقررہ سے ایک روپیہ ماہوار کم ہو کر انکی تنخواہ مین ایزاد کیا جائے - احکام جاری ہون -

دستخط صاحب ریونیو سکریٹری بہادر

حکم اجلاس صاحب جوڈیشل سکریٹری بہادر

علحدگی مختار

۴ مارچ ۱۹۲۶ء

مثبتہ رپورٹ رجسٹرار صاحب صدر دربارہ تصدیق درخواست ذوالفقار احمد ولد مشتاق احمد ساکن رامپور محلہ مسجد چرخ والی بابت موقوفی واحد حسن ولد احمد حسن از کار مختار عام -

حکم

ذوالفقار احمد ولد مشتاق احمد ساکن رامپور محلہ مسجد چرخ والی نے واحد حسن ولد احمد حسن کو اپنی مختارکاری سے علحدہ کر دیا ہی - یہ اطلاع درج گزٹ ہو -

دستخط صاحب جوڈیشل سکریٹری بہادر

روبکار اجلاس صاحب جوڈیشل سکریٹری بہادر
واقع ۴ مارچ سنہ ۱۹۲۶ء

اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عدالتہائے ماتحت میں نشان انگشت لکڑی کی روشنائی سے لئے جاتے ہیں جو صاف نہیں ہوتے اور نہ پڑھنے میں آتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ سیاہی نشان انگشت سے نشانات انگشت لئے جائیں اور ایسے صاف ہوں کہ ہر کہ سب نشان بخوبی ظاہر ہو جائیں۔ وکلاء عدالت اور عرائض نویسان کو بھی چاہئے کہ وہ درخواست ہائے وغیرہ پر صاف نشان انگشت لیا کریں کہ وہ پڑھنے میں آسکیں مثل چھپے ہوں لہذا۔

حکم ہے کہ

بنابر تعمیل و اطلاع جملہ عدالتہائے ماتحت میں احکام جاری کئے جائیں۔ اور ایک نقل اس حکم کی بنابر اطلاع وکلاء و عرائض نویسان مطبع سرکاری کو بغرض اندراج گزٹ مرسل ہو۔

دستخط صاحب جوڈیشل سکریٹری بہادر

روبکار اجلاس صاحب جوڈیشل سکریٹری بہادر
واقع ۹ مارچ سنہ ۱۹۲۶ء

رپورٹ صاحب چیف مجسٹریٹ سے واضح ہوتا ہے کہ محمد علی خان اہلمد متعینہ عدالت اسپشل مجسٹریٹی نے الحال کام کے قابل نہیں ہیں۔ چونکہ وہ دیرینہ ملازم ہیں وہ مستحق مراعات ہیں۔ لہذا انکو چھ مہینہ کی رخصت دیجاتی ہے کہ وہ اپنا علاج کرائیں۔ اور وہ اس میعاد کے اندر ڈاکٹر صاحب کا ملاحظہ اپنی صحت کی بابت کرائیں۔ اور رپورٹ بذریعہ صاحب چیف مجسٹریٹ پیش کریں۔ اس مدت چھ ماہ میں نو روپیہ ماہوار منجملہ انکے تنخواہ کے انکو ملیں گے۔ اور دس روپیہ ماہوار سید محمد علی ولد سید فرزند علی کو ملا کریں گے اور محمد علی مذکور کام انکا انجام دیگا۔

حکم ہے کہ

حسب صراحت بالا احکام ضابطہ جاری ہوں۔

دستخط صاحب جوڈیشل سکریٹری بہادر

حکم اجلاس صاحب جوڈیشل سکریٹری بہادر
واقع ۳ مارچ سنہ ۱۹۲۶ء

رپورٹ انسپکٹر صاحب مدارس پیش ہو کر بجائے تعطیل پندرہ روزہ ابتدا ۱۱ اپریل لغایت ۲۶ اپریل سنہ ۱۹۲۶ء کی تعطیل فصل ربیع پندرہ روزہ مدارس متعلقات کی یکم اپریل سنہ ۱۹۲۶ء سے منظور کی جاتی ہے۔ لہذا مثل حکم ہوا برائے اندراج گزٹ مطبع کو مرسل ہو۔

دستخط صاحب جوڈیشل سکریٹری بہادر

حکم اجلاس صاحب سکریٹری بہادر تعمیرات و صنعت و حرفت
واقع ۴ مارچ سنہ ۱۹۲۶ء

محمد رضا محرر چونگی نے ملازمت سے استعفا پیش کیا ہے، یہ شخص مبلغ دس روپیہ ماہوار تنخواہ پاتا تھا۔ میونسپل افسر صاحب نے رپورٹ منسلکہ میں یہ انتظام تجویز کیا ہے کہ صاحبزادہ سید شریف علی خاں بہادر محرر چونگی مشاہرہ دار آٹھ روپیہ آٹھ آنے ماہوار کو مشاہرہ نو روپیہ بجائے مستعفی کے مقرر کیا جائے اور صفدر علی و احمد حسین خاں مشاہرہ دار ساڑھے آٹھ روپیہ فی کس ماہوار کی تنخواہ میں آٹھ آٹھ آنہ فی کس اضافہ کر کے نو روپیہ فی کس تکمیل تنخواہ کر دی جائے۔ اور صاحبزادہ سید شریف علی خاں بہادر کی جگہ پر مشاہرہ ساڑھے آٹھ روپیہ ماہوار سے نہال الدین کا تقرر کیا جائے۔ اس انتظام میں کوئی بیشی مصارف میں نہ ہوگی۔ لہذا

حکم ہوا کہ

انتظام مجوزہ بصراحت بالا حسب رپورٹ میونسپل افسر صاحب منظور ہے۔ مسمی نہال الدین جو جدید ملازم رکھا جاتا ہے۔ یہ تقرر امتحاناً ہوگا۔ چھ ماہ کے بعد کارکردگی کی رپورٹ آنے پر بابت آئندہ حکم دیا جائے گا۔ صدور احکام ضابطہ جاری ہوں۔ فقط

دستخط صاحب سکریٹری بہادر تعمیرات و صنعت و حرفت

حکم اجلاس صاحب فائنل سکریٹری بہادر

اضافہ

۹ مارچ ۱۹۲۶ء

مثبہ یادداشت بخشی صاحب فوج دربارہ دو روپیہ اضافہ اخلاق حسین خاں الجبہ بہشتری بوجہ محنت و مستعدی و حسن انجام دہی خدمت متعلقہ۔

حکم

حسب سفارش بخشی صاحب، فوج اخلاق حسین خاں الجبہ بہشتری کی موجودہ دس روپیہ ماہوار میں یکم مارچ ۱۹۲۶ء سے دو روپیہ ماہوار اضافہ منظور کیا جاتا ہے۔ بغرض اجرائے احکام محکمۂ صدر کو مرسل ہو۔

دستخط صاحب فائنل سکریٹری بہادر

علمی ذخیرہ

اعلیحضرت خلد اللہ ملکہ کے حکم سے کتب ذیل تالیف ہوکر طبع ہوگئی ہیں۔ ایسا ذخیرہ مشکل سے ہاتھ آتا ہے۔ اس نادر موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیے۔ خود بھی خرید فرما کر پڑھیئے اور احباب کو بھی دکھائیے۔

قول شافی۔ یہ حدیث کی مشہور کتاب کافی کا اردو ترجمہ ہے جلد دوم کا پہلا حصہ چھپ چکا ہے۔ قیمت ۱۲؍

التوحید۔ یہ کتاب جامع حامدی کی جلد اول کا پہلا حصہ ہے۔ اس میں خداوند عالم کے وجود اس کی توحید اور صفات سے بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۱۲؍

خصائص معاویہ۔ یہ کتاب حصۂ چہارم جلد اول جامع حامدی کے ملحقات میں ہے جو اصل محمد بن عقیل اشعری کی مشہور کتاب نصائح کافیہ کا ترجمہ ہے بعض مطالب کا اس میں اضافہ کیا گیا ہے قیمت علاوہ محصول ڈاک ۴؍

جس قدر نسخے مطلوب ہوں درخواست معرفت صاحب کتب خانہ سرکاری کی خدمت میں ارسال فرمائیے۔

ذوالفقار حسنین مہتمم تالیفات ریاست رامپور

سرکاری پریس ریاست رامپور میں چھپ کر شائع ہوا

نقشہ نرخنامہ اجناس ریاست رامپور من ابتدا ۱۸ لغایت ۲۴ مارچ سنہ ۱۹۲۶ء

نام جنس	تحصیل حضور	شاہ آباد	ملک	بلاسپور	سوار	ٹانڈہ	کیفیت
گندم			۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	دیگر تحصیلات سے نقشہ نہیں آیا
نخود خالص			۱۴	۱۳	۱۰۷	۱۴	
نخود کتہ آمیز			۱۰۶	۱۴	۰	۱۰۶	
کتہ			۱۰۴	۱۰۶	۰	۱۰۳	
ماش			۱۰۵	۱۵	۰	۱۵	
مونگ			۰	۰	۰	۱۵	
مکا			۱۰۲	۱۲	۱۰۶	۱۶	
جنی			۰	۱۲	[illegible]	۱۹	
گوجنی			۰	۱۸	۰	۱۴	
عدس			۰	۱۰۴	۰	۱۶	
ارہر			۰	۰	۰	۱۹	
برنج			۱۰۳	۱۵	۰	۱۵	
روغن زرد			۱۰	۱۰	۱۰	۰	
روغن سیاہ			۱۲	۱/۱/۲	۱/۲	۱/۲/۱	
روغن کنجد			۰	۱/۱	۱۱	۱۱	
نمک سانبھر			۱۲	۱۱	۱۱	۱۲	
نمک لاہوری			۱۶	۱۵	۰	۱۸	
قند سیاہ			۱۰۳	۱۵	۱۰۵	۱۵	
باجرہ			۰	۰	۰	۱۹	

مطبوعہ سرکاری پریس ریاست رامپور